



## سوال

(184) عمرہ یا حج کی ادائیگی کو بطور مہر مقرر کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری یہ خواہش ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے عمرہ یا حج کی سعادت سے نوازے گا مگر میری معاشی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی اس لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بطور مہر عمرہ کرنے کی شرط لگا لوں۔ اگر یہ ممکن ہو اور اگر میری تقدیر میں لکھا ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی صالح خاوند نصیب فرمادے تو ایسا کرنے میں شریعت کی کوئی مخالفت تو نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ بطور مہر عمرہ کرنے کی شرط لگالیں۔ یقیناً صحیح (یعنی بخاری اور مسلم) میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کی ایک عورت کے ساتھ قرآن کی ان سورتوں کے عوض شادی کی تھی جو اسے یاد تھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی نیک خاوند عطا فرمائے اور ہم پر اور آپ پر احسان کرتے ہوئے حق پر ثابت قدمی کی توفیق دے یقیناً وہ سننے والا قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ (سعودی فتویٰ کمیٹی)

صداما عنہمی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 257

محدث فتویٰ